

Visit of Minister of State for External Affairs, Shri V. Muraleedharan to attend UN Security Council High Level Meeting

October 10, 2021

وزیر مملکت برائے خارجہ امور جناب وی مرلی دھرن کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں شرکت کے لئے دورہ

10 اکتوبر، 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ (ایم او ایس) جناب وی مرلی دھرن 11 سے 13 اکتوبر 2021 تک نیویارک کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران، وزیر مملکت 12 اکتوبر 2021 کو قیام امن اور پائیدار امن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اعلیٰ سطحی کھلی بحث میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ اجلاس کینیا نے طلب کیا ہے جو کہ اکتوبر 2021 کے مہینے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کی صدارت کینیا کے معزز صدر عزت مآب اوپورو کینیٹا کریں گے۔

2- اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اعلیٰ سطحی اجلاس تنازعات کی روک تھام اور تنازعات کے حل اور ریاست کی تعمیر کو تنوع کے موثر انتظام کے ذریعہ اور پر امن بقائے باہمی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گا۔ توقع ہے کہ اس مباحثے سے رکن ممالک کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا تاکہ وہ امن کے قیام اور امن کو برقرار رکھنے کے عملی تجربات میں بصیرت اور تجربات کو شیئر کر سکیں۔

3- بھارت نے تنازعات سے نکلنے والے ممالک کے لئے قیام امن اور سماجی و اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کی ترقیاتی شراکت طلب پر مبنی رہی ہے اور پائیدار صلاحیت سازی کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ بھارت اس طرح کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ سمیت ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔

نئی دہلی

10 اکتوبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.